

July 7, 2023

The General Manager  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road,  
Karachi.

**Subject: Notice u/s 159(4) of the Companies Act, 2017, Publication of Ballot Paper and Provision of Electronic Voting**

Dear Sir

We refer to our notice in relation to Extraordinary General Meeting posted on June 23, 2023, of Untied Distributors Pakistan Limited (the "Company") scheduled to be held on July 14, 2023. Please find enclosed the newspaper publications of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 and the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 that have been published today i.e., July 7, 2023, in the following daily newspapers:


- 1) Express Tribune (English)
- 2) Roznama Dunya (Urdu)

The ballot paper is also available on the website of the Company at [www.udpl.com.pk](http://www.udpl.com.pk) for voting through postal ballot.

Further, in compliance with regulation 4 of the Regulations, an electronic voting facility will also be made available to eligible Members of the Company in line with applicable law.

You may please inform the TRE Certificates Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely Yours,



Muhammad Imran  
Company Secretary

cc: **Director / HOD**  
Surveillance, Supervision and Enforcement Department  
Securities Exchange Commission of Pakistan  
NIC, Building, Jinnah Avenue, Blue Area,  
Islamabad

*The Spirit of Growth*

**UNITED DISTRIBUTORS PAKISTAN LIMITED**

Plot No. 105, Sector 7-A, Mehran Town, Korangi Industrial Area, Karachi - 74900  
Telephone: (+92-21) 3511-6823 | Corporate: (+92-331) 111-0835 | Email: [info@udpl.com.pk](mailto:info@udpl.com.pk)  
<http://www.udpl.com.pk>

## UNITED DISTRIBUTORS PAKISTAN LIMITED



### ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the members of the Company are hereby notified that the following persons have filed with the Company notices of their intention to offer themselves for election as Directors under section 159(3) of the Act, for the next term of three years at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on July 14, 2023 at 16:00 at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Clifton, Karachi.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Mr. Ayaz Abdulla             | 5. Mr. Saqib Abbas         |
| 2. Mr. Asad Abdulla             | 6. Mr. M.A. Samie Cashmiri |
| 3. Mr. Najmul Hassan            | 7. Ms. Samia Zuberi        |
| 4. Mr. M. Salman Husain Chawala |                            |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of directors fixed by the board as per section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore the above mentioned seven persons are deemed to be elected as Directors of the company at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

### PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of United Distributors Pakistan Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on **Friday, July 14, 2023**, at 04.00 PM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at [www.udpl.com.pk](http://www.udpl.com.pk) for download.

Karachi  
July 07, 2023

**M. Imran**  
Company Secretary

#### Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of July 07, 2023.
- The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from July 11, 2023, 09:00 a.m. and shall close on July 13, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

#### Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Plot#105, Sector 7-A, Mehran Town, Korangi Industrial Area Karachi or email at [m.imran@udpl.com.pk](mailto:m.imran@udpl.com.pk) one day before the Extraordinary General Meeting on July 13, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

## UNITED DISTRIBUTORS PAKISTAN LIMITED



### POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, July 14, 2023, at 04:00 p.m. at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Clifton, Karachi.

Phone: +92-331-111-0835 Website: [www.udpl.com.pk](http://www.udpl.com.pk)

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

#### Resolution For Agenda Item No. 3

To approve the circulation of the Annual audited financial statement to the Members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023.

Instructions For Poll		
1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.		
2. In case if both the boxes are marked as (✓), you poll shall be treated as "Rejected".		
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:		
Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 3		

#### NOTES:

- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sector 7-A, Mehran Town, Korangi Industrial Area Karachi or e-mail at [m.imran@udpl.com.pk](mailto:m.imran@udpl.com.pk)
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Thursday, July 13, 2023**. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport. (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: [www.udpl.com.pk](http://www.udpl.com.pk). Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

# یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ



## ڈائریکٹران کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 پر عملدرآمد کرتے ہوئے، کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر، کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام جو 14 جولائی 2023 کو بوقت 16:00 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، کلفٹن، کراچی میں منعقد ہوگا، میں ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کے تحت اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹر اتریکٹرا گلے تین سال کی مدت کے الیکشن کیلئے اپنی دلچسپی سے آگاہ کیا ہے۔

- (1) مسٹر ایاز عبداللہ (2) مسٹر اسد عبداللہ (3) مسٹر نجم الحسن (4) مسٹر امیر مسلمان حسین چاؤلہ  
(5) مسٹر شاقب عباس (6) مسٹر ایم۔ اے۔ سبج کشمیری (7) مس سامیہ زہیری
- چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے انتخاب کیلئے خود کو پیش کیا ہے، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ بالا 7 افراد کو آنے والے غیر معمولی اجلاس میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کیلئے منتخب تصور کیا جائیگا۔

**الیکٹروٹک ووٹنگ کی سہولت اور اسٹیبل برنس پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار**

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعہ جاری کیا گیا ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن مورخہ 05:05 2022 پر عملدرآمد کرتے ہوئے، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے، الیکٹروٹک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں اور اسٹیبل برنس کے طور پر درجہ بند تمام برنسز پر ممبران، ڈاک کے ذریعے ووٹ دیں۔ اس کے مطابق، یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران، بروز جمعہ 14 جولائی 2023 بوقت شام 04:00 بجے کو منعقد ہونے والے اسکے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں ضروریات کے مطابق اور متذکرہ بالا ریگولیشنز میں شرائط سے مشروط الیکٹروٹک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا اسٹیبل برنس کیلئے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کیلئے، بیلٹ پیپر ٹرس بڈا کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ [www.udpl.com.pk](http://www.udpl.com.pk) پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

کراچی ایم۔ عمران  
کمپنی سیکریٹری

7 جولائی 2023

### ای۔ ووٹنگ کا طریقہ کار

- (a) ای۔ ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعہ شیئر کی جائیں گی جن کے کارڈ نمبر CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 07 جولائی 2023 کو برنس کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔
- (b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعہ ممبران کو بتائے جائیں گے، سیکورٹی کوڈ، سی ڈی سی شیئر رجسٹر اور سرور (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس ممبران کو بتائے جائیں گے۔
- (c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹروٹک ڈیٹیلنگ ایگ ان کی تصدیق کے ذریعہ کی جائیگی۔
- (d) ای۔ ووٹنگ 11 جولائی 2023 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 13 جولائی 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی ممبران اس عرصہ میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

### پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

- (a) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ طور پر، پرکٹے ہوئے اور دیکھ بھال شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کیساتھ ڈیٹیلنگ کے رجسٹر میں کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پلاٹ نمبر 105، سیکٹر 7-A، مہراں ٹاؤن، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی یا ای میل [m.imran@udpl.com.pk](mailto:m.imran@udpl.com.pk) پر بذریعہ پوسٹ نمبر معمولی اجلاس عام مورخہ 13 جولائی 2023 سے ایک روز قبل تک دفتری اوقات کے دوران پہنچ جائے، بیلٹ پیپر پر دیکھ بھال شدہ CNIC پر دیکھ بھال سے مٹا ہونے چاہئیں۔

## یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ

### پوسٹل بیلٹ پیپر

بروز جمعہ مورخہ 14 جولائی 2023 بوقت شام 4:00 بجے بہ مقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، کلفٹن، کراچی  
فون 92-331-111-0835+ ویب سائٹ [www.udpl.com.pk](http://www.udpl.com.pk) میں منعقد ہونے والے  
غیر معمولی اجلاس عام کے اسٹیبل برنس کیلئے بذریعہ پوسٹل بیلٹ پیپر۔

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئر کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فونو کا پی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (ہاڈی کار پورٹ، کار پوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دیکھ بھال کنندہ کا نام	
مجاز دیکھ بھال کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	
<b>ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کیلئے قرارداد:</b>	
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 سے S.R.O.389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کیساتھ مل کر پڑھا جائے، کے مطابق ممبران کو کمپنی کے سالانہ ڈیٹیلڈ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی سرکولیشن، بذریعہ کارڈ QR کوڈ ذریعہ ویب لنک کی منظوری۔	
<b>پول کیلئے ہدایات</b>	
(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو م کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔	
(2) اگر دونوں خانوں کو م کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسٹر ڈ" سمجھا جائیگا۔	
میں/م، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں م کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔	
قرارداد	میں/م اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)
میں/م اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)	
ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کیلئے قرارداد	
(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، جیتیر میں کو پلاٹ نمبر 105، سیکٹر 7-A، مہراں ٹاؤن، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی یا ای میل <a href="mailto:m.imran@udpl.com.pk">m.imran@udpl.com.pk</a> پر ارسال کیا جائے۔	
(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔	
(3) بیلٹ پیپر، جیتیر میں تک بروز جمعرات، 13 جولائی 2023 تک دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔	
(4) بیلٹ پیپر کے دیکھ بھال کنندہ CNIC / پاسپورٹ پر کٹے گئے دیکھ بھال کنندہ کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	
(5) ناگھل، غیر دیکھ بھال شدہ، غلط، مستحکم، پھسا ہوا، ایلٹی لیبڈ، اور ریشٹن پول پیپر، مسٹر ڈ کر دیا جائیگا۔	
(6) ایک ہاڈی کار پورٹ، کار پوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے قابل اطلاق سیکشن 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/پاور آف اتارنی/اقتدار نمائندگی لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی ہاڈی کار پورٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات و تفصیل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے، جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔	
(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ <a href="http://www.udpl.com.pk">www.udpl.com.pk</a> پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسٹیبل/اخبار میں شائع شدہ کی فونو کا پی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔	

مورخہ:

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دیکھ بھال کنندہ  
(کار پورٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی ہر شت کریں)